



## Allail

## اللیل

## الَّيْلِ

In the name of Allah,  
Most Gracious, Most  
Merciful.

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان  
نہایت رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. By the night when it  
covers.

قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔

وَالَّیْلِ اِذَا یَغْشٰی ﴿۱﴾

2. And the day when it  
appears in brightness.

اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰی ﴿۲﴾

3. And Him who  
created the male and  
the female.

اور اس کی جس نے پیدا کئے نر اور  
مادہ۔

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنثٰی ﴿۳﴾

4. Indeed, your efforts  
are diverse.

بیشک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔

اِنَّ سَعِیْكُمْ لَشَتٰی ﴿۴﴾

5. So as for him who  
gave and feared.

پس یہ کہ وہ جس نے دیا اور ڈرا۔

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ﴿۵﴾

6. And believed in  
goodness.

اور سچ جانا بھلائی کو۔

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ﴿۶﴾

7. So We shall make  
smooth for him the  
path of ease.

تو توفیق دیں گے ہم اسکو آسان  
طریقے کی۔

فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْیُسْرٰی ﴿۷﴾

8. And as for him who  
is miser, and thought  
himself as free of need.

اور یہ کہ وہ جس نے بخل کیا اور بے  
نیازی برتی۔

وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰی ﴿۸﴾

9. And belied to  
goodness.

اور جھٹلایا بھلائی کو۔

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ﴿۹﴾

10. So We shall ease  
him toward difficulty.

تو ہم پہنچا دیں گے اسے سختی میں۔

فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰی ﴿۱۰﴾

11. And will not avail him his wealth when he falls.

اور نہ کام آئے گا اسکے اس کا مال جب وہ نیچے گرے گا۔

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾

12. Indeed, it is upon Us guidance.

بیشک ہمارا ذمہ ہے راہ دکھا دینا۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾

13. And indeed, Ours are the Hereafter and the present life.

اور بیشک ہماری ہی میں آخرت اور دنیا۔

وَأَنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾

14. So, I have warned you of the Fire which is blazing.

سو میں نے تلو خبردار کر دیا ہے آگ سے جو بھڑکتی ہوئی ہے۔

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾

15. None shall enter in it (to burn) except the most wretched.

نہ داخل ہوگا اس میں (جلنے کو) مگر جو بڑا بدبخت ہے۔

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾

16. He who belied and turned away.

وہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾

17. And away from it shall be kept the righteous.

اور بچا لیا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾

18. He who gives his wealth to purify.

وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو۔

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾

19. And not of anyone upon him is any favor that is to be returned.

اور نہ کسی کا اس پر ہے کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے۔

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾

20. Except as seeking the countenance of his Lord, the Exalted.

مگر یہ کہ حاصل کرنے کے لئے رضامندی اپنے رب اعلیٰ کی۔

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾

21. And soon He will be well pleased.

اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

